



سوال

(558) احرام کی حالت میں چہرہ نکا رکھنا چاہیے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

احادیث میں آیا ہے کہ عورت حالت احرام میں نقاب نہ لے اور نہ دستاں پہنے، تو کیا وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ ننگے رکھے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عورت بحالت احرام نقاب نہ لے اور نہ دستاں پہنے۔“ (سنن النسائی، کتاب مناسک الحج، باب النخی عن ان تنقب المرأة الحرام، حدیث: 2674 و سنن ابی داود، کتاب المناسک، باب ما یلئس المحرم، حدیث: 1825، 1826، 1827 و صحیح بخاری، کتاب الحج، باب ما یلئس من الطیب للمحرم، حدیث: 1741-) یعنی عورت کے لیے احرام کے دوران میں نقاب باندھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس سے اجنبی مرد گزرتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ ان سے اپنا چہرہ نقاب لیے بغیر چھپائے، یعنی سر کے کپڑے سے، اوڑھنی یا چادر سے ([1]) جیسے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں عورتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ نقاب چہرے کا خاص لباس ہے جیسے کہ قمیص بدن کا لباس ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کا لباس دستاں بھی حالت احرام میں استعمال نہیں کیے جاسکتے۔ مگر اجنبی پاس سے گزریں تو اپنی پردے کی چادر وغیرہ سے لپٹنے ہاتھ چھپائے۔

[1] اس کیفیت کو ہمارے ہاں گھونگٹ نکالنا کہتے ہیں۔

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

صفحہ نمبر 401

محدث فتویٰ